

# Hos

## Chapter 6

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְכֹן	וְנִשְׁוֶבָה	אֶל-	יְהוָה	כִּי	הוּא	טָרַף	וַיִּרְפָּאֵנוּ	יָד	וַיַּחֲבֹשְׁנוּ:
	آؤ اور-لوٹیں	کی-طرف	یہوواہ	کیونکہ	وہ	پھاڑا	اور-شفا-دے-گا-بمیں	مارا	اور-پٹی-باندھے-گا-بمیں	
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H2963</a>	<a href="#">H7495</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H2280</a>	

وہی اور کی، پٹائی ہماری نے اسی گا۔ دے بھی شفا ہمیں وہی اور پھاڑا، ہمیں نے اسی کیونکہ چلیں۔ واپس پاس کے رب ہم آؤ، گے، کہیں وہ وقت اُسی گا۔ کرے بھی پٹی مرہم ہماری

2	יָחִינוּ	מִיָּמִים	בַּיּוֹם	הַשְּׁלִישִׁי	יִקְמְנוּ	וְנַחֲיָה	לְפָנָיו:
	زندہ-کرے-گا-بمیں	دو-دنوں-میں	دن-میں	تیسرے	اُٹھائے-گا-بمیں	اور-جییں-گے	سامنے-اُس-کے
	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H6440</a>	

گزاریں۔ زندگی حضور کے اُس ہم تاکہ گا کرے کھڑا اُٹھا دوبارہ ہمیں دن تیسرے اور گا کرے زندہ سے سرے نئے ہمیں وہ بعد کے دن دو

3	וְנִדְרָעָה	נִדְרָפָה	לְדַעַת	אֶת-	יְהוָה	כְּשַׁחַר	נִכּוֹן	מוֹצָאֵו	וַיָּבֹא	כְּנֶשֶׁם
	اور-جائیں	جاری-رکھیں	جانے-کو	کو-	یہوواہ	جیسے-فجر	یقینی	نکلنا-اُس-کا	اور-آئے-گا	جیسے-بارش
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7837</a>		<a href="#">H4161</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H1653</a>

لָנוּ	כְּמוֹלֶקֶשׁ	יִזְרָה	אֶרֶץ:
ہمیں	جیسے-آخری-بارش	برساتی-ہے	زمین
	<a href="#">H4456</a>	<a href="#">H0776</a>	

روزانہ کا سورج جتنا ہے یقینی اُتنا بہ گا۔ ہو ظاہر پر ہم ضرور وہ رہیں۔ کوشاں لئے کے جانے کو رب ساتھ کے جہد و جد پوری ہم لیں، جان اُسے ہم آؤ، گا۔ آئے پاس ہمارے بھی اللہ طرح اُسی ہے کرتی سیراب کو زمین بارش تیز کی بہار موسم طرح جس ہے۔ یقینی ہونا طلوع

4	מָה	אֶעֱשֶׂה-	לָךְ	אֶפְרָיִם	מָה	אֶעֱשֶׂה-	לָךְ	וְחֶסֶדְכֶם	כְּעֵנָן-
	کیا	کروں-	تیرے-لیے	افرائیم	کیا	کروں-	تیرے-لیے	اور-شفقت-تمہاری	جیسے-بادل-
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0669</a>		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0669</a>		<a href="#">H3063</a>		<a href="#">H6051</a>

בֹּקֶר	וְכֶסֶל	מִשְׁכִּים	הַלָּה:
صبح-کا	اور-جیسے-شبنم	سویرے	جانے-والی
<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H2919</a>	<a href="#">H7925</a>	<a href="#">H1980</a>

کی اوس میں دھوپ ہے۔ عارضی جیسی دُھند کی صبح محبت تمہاری کروں؟ کیا ساتھ تیرے میں یہوداہ، اے کروں؟ کیا ساتھ تیرے میں اسرائیل، اے ہے۔ جاتی ہو کافور ہی جلد وہ طرح

5	עַל-	זֶן	חַצְבֹתִי	בְּנִבְיָאִים	הַרְגֹתִים	בְּאִמְרֵי-	פִי	וּמִשְׁפָּטֶיךָ	אֶזְרֵךְ	יִצְא:
اس-لیے-	اس-	کاٹا	نبیوں-سے	قتل-کیا-اُن-کو	کلام-سے-	منہ-میرے	اور-فیصلے-تیرے	روشنی	نکلے-گی	
		<a href="#">H2672</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H2026</a>	<a href="#">H0561</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H0216</a>	<a href="#">H3318</a>	

ہے۔ ہوتا طلوع ہی طرح کی سورج نور کا انصاف میرے ہے۔ ڈالا مار تمہیں سے الفاظ کے منہ اپنے دیا، پٹخ تمہیں معرفت کی نبیوں اپنے نے میں لئے اسی

6	כִּי	חֶסֶד	חַפְצֹתִי	וְלֹא-	זָבַח	וְדַעַת	אֱלֹהִים	מַעֲלֹת:
کیونکہ	شفقت	چاہا	اور-نہیں-	قربانی	اور-علم	خدا-کا	سوختنی-قربانیوں-سے-زیادہ	
		<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H0430</a>		

لو۔ جان کو اللہ تم کہ ہے پسند یہ مجھے نسبت کی قربانیوں والی ہونے بھسم ہوں، کرتا پسند رحم بلکہ نہیں قربانی میں کیونکہ

7	וְהִמָּה	כְּאָדָם	עֲבָרָו	בְּרִית	שָׁם	בְּגֵרָו	כִּי:
اور-وہ	جیسے-آدم	توڑا	عہد	وہاں	دغا-کیا	مجھ-سے	
<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0121</a>		<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H0898</a>		

گئے۔ بو یوفا سے مجھ کر توڑ عہد میں شہر آدم وہ

8 **ג'לעד** **קרית** **פועלי** **און** **עקבה** **נדם:**  
جلعاد شہر کرنے-والوں-کا بدی گندا خون-سے  
[H1568](#) [H7151](#) [H6466](#) [H0205](#) [H1818](#)

ہیں۔ داغ کے خون طرف ہر ہے، گیا بھر سے مجرموں شہر جلعاد

9 **ורככי** **איש** **גדודים** **חבר** **כהנים** **דרך** **ירצחו-** **שכמה** **כי**  
اور-جیسے-غات-لگائے-والے آدمی ٹولیوں-کی گروہ کاہنوں-کا راستے-میں قتل-کرتے-ہیں- شکم کیونکہ  
[H2442](#) [H0376](#) [H1416](#) [H2267](#) [H3548](#) [H1870](#) [H7523](#) [H7927](#)  
**זמה** **עשו:**  
شرمناکي کیا  
[H2154](#)

ناک شرم وہ ہاں، ہیں۔ کرتے قتل انہیں کر لگا تاک کی مسافروں پر راستے والے پہنچانے کو سبک وہ کیونکہ ہیں۔ گئے بن مانند کی ڈاکوؤں جتھے کے اماموں کرتے۔ نہیں گریز سے حرکتوں

10 **בבית** **ישׂראל** **ראיתי** **שעריה** **שעריה** **שם** **זנות** **לאפרים** **נטמא** **ישׂראל:**  
گھر-میں اسرائیل دیکھا یا (شعریہ) وہاں زنا افرائیم-کے-لیے ناپاک-ہوا اسرائیل  
[H3478](#) [H7200](#) [H8033](#) [H2184](#) [H0669](#) [H3478](#)

ہے۔ کرتا ناپاک کو آپ اپنے وہ ہے، کرتا زنا اسرائیل کیونکہ ہیں۔ جاتے ہو کھڑے رونگٹے سے جن ہیں دیکھی باتیں ایسی میں اسرائیل نے میں

11 **גם-** **יהודה** **נפת** **קציר** **לך** **בשׁובי** **שבות** **עמי:** **פ**  
بھی- یہوداہ ٹھہرائی فصل تیرے-لیے لوٹاؤں-میں قید قوم-میری -  
[H1571](#) [H3063](#) [H7896](#) [H7725](#) [H7622](#)

کے کر بحال کو قوم اپنی میں کبھی جب ہے۔ والی پکنے فصل کی عدالت بھی پر یہوداہ لیکن